



گیلانی ریسرچ فاؤنڈیشن کا رائے عامہ سروے

موضوع: "انرجی"

"گیس"

ایک تہائی پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ گذشتہ سال کی نسبت ان کے علاقے میں گیس کی فراہمی / پریشر میں کمی آئی ہے، دیہی علاقوں کے مقابلے میں شہری علاقوں میں رہنے والے 8% زائد جوابدہندگان کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں گذشتہ سال کی نسبت گیس کی فراہمی / پریشر میں اضافہ ہوا ہے:

گیلانی ریسرچ فاؤنڈیشن، گیلپ پاکستان

اسلام آباد، 15 مارچ، 2017


گیلانی ریسرچ فاؤنڈیشن کے ایک حالیہ سروے کے مطابق، ایک تہائی پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ گذشتہ سال کی نسبت ان کے علاقے میں گیس کی فراہمی / پریشر میں کمی آئی ہے، دیہی علاقوں کے مقابلے میں شہری علاقوں میں رہنے والے 8% زائد جوابدہندگان کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں گذشتہ سال کی نسبت گیس کی فراہمی / پریشر میں اضافہ ہوا ہے۔

سروے میں ملک بھر سے شماریاتی طور پر منتخب مرد و خواتین سے یہ سوال پوچھا گیا کہ، "برائے مہربانی گذشتہ سال سردیوں کے موسم میں گیس کی فراہمی / پریشر کے بارے میں سوچتے ہوئے بتائیں کہ گذشتہ سال کی نسبت اس سال آپ کے علاقے میں گیس کی فراہمی (یعنی گیس کا پریشر) میں اضافہ ہوا ہے، کمی ہوئی ہے یا کوئی فرق نہیں پڑا؟" اس سوال کے جواب میں، 41% جوابدہندگان کے مطابق ان کے علاقے میں گذشتہ سال کی نسبت گیس کی فراہمی / پریشر میں اضافہ ہوا ہے، 32% افراد کا کہنا ہے کمی ہوئی ہے، جبکہ 26% افراد کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں گیس کی فراہمی / پریشر میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تاہم 1% افراد نے جواب نہیں دیا۔

دیہی اور شہری علاقوں کا جائزہ:

شہری علاقوں میں رہنے والے 46% جوابدہندگان کے مطابق ان کے علاقے میں گذشتہ سال کی نسبت گیس کی فراہمی / پریشر میں اضافہ ہوا ہے، 28% افراد کا کہنا ہے کمی ہوئی ہے، جبکہ 26% افراد کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں گیس کی فراہمی / پریشر میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ جبکہ اس کے برعکس دیہی علاقوں میں رہنے والے 38% جوابدہندگان کے مطابق ان کے علاقے میں گذشتہ سال کی نسبت گیس کی فراہمی / پریشر میں اضافہ ہوا ہے، 34% افراد کا کہنا ہے کمی ہوئی ہے، جبکہ 25% افراد کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں گیس کی فراہمی / پریشر میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تاہم 3% افراد نے جواب نہیں دیا۔ دونوں علاقوں کے نتائج کا موازنہ کیا جائے تو دیہی علاقوں میں رہنے والے باشندوں کی نسبت شہری علاقوں میں رہنے والے 8% سے زائد جوابدہندگان کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں گذشتہ سال کی نسبت گیس کی فراہمی / پریشر میں اضافہ ہوا ہے۔

'برائے مہربانی گذشتہ سال سردیوں کے موسم میں گیس کی فراہمی / پریشر کے بارے میں سوچتے ہوئے بتائیں کہ گذشتہ سال کی نسبت اس سال آپ کے علاقے میں گیس کی فراہمی (یعنی گیس کا پریشر) میں اضافہ ہوا ہے، کمی ہوئی ہے یا کوئی فرق نہیں پڑا؟'



Source: Gilani Research Foundation Poll (GRF Poll)

Field work conducted by Gallup Pakistan, the Pakistani affiliate of Gallup International Association

www.gallup-international.com; www.gallup.com.pk; www.gilanifoundation.com

گیلانی ریسرچ فاؤنڈیشن کا حالیہ سروے گیلپ انٹرنیشنل سے منسلک گیلپ پاکستان کی مدد سے کیا گیا۔ یہ سروے پاکستان کے چاروں صوبوں کی دیہی اور شہری آبادی کے 1728 مرد و خواتین سے 9 جنوری تا 16 جنوری 2017 میں منعقد ہوا۔ غلطی کے امکان کا تخمینا شماریاتی طور پر تقریباً $\pm 2-3\%$ لگایا گیا ہے۔



Opinion Poll from Gallup Pakistan
The Pakistani Affiliate of Gallup International



Wednesday March 15, 2017

(2 Pages including this only Urdu version)

Gilani Research Foundation is a not for profit public service project to provide social science research to students, academia, policy makers and concerned citizens in Pakistan and across the globe.

Gilani Research Foundation is headed by Dr. Ijaz Shafi Gilani who pioneered the field of opinion polling in Pakistan and established Gallup Pakistan in 1980. Currently Dr. Gilani, who holds a PhD from the Massachusetts Institute of Technology (MIT) and has taught at leading universities in Pakistan and abroad, is Chairman of Gallup Pakistan.

If you have any further questions regarding this poll, please feel free to contact us.

Best Regards,

Ms. Fatima Idrees
Phone: +92-51-2655630
E-mail: fatima.idrees@gilanifoundation.com

Disclaimer: *Gallup Pakistan is not related to Gallup Inc. headquartered in Washington D.C. USA. We require that our surveys be credited fully as Gallup Pakistan (not Gallup or Gallup Poll). We disclaim any responsibility for surveys pertaining to Pakistani public opinion except those carried out by Gallup Pakistan, the Pakistani affiliate of Gallup International Association. For details on Gallup International Association see website: www.gallup-international.com*



Daily Gilani Poll
2017



of Gallup Pakistan
(1980-2017)